

سوال

آپ کونسے دن کو مقدس شمار کرتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ ہفتہ وار چھٹی اور آرام اور عبادت کا دن ہے؟

پسنیدہ جواب

الحمد لله.

یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا دن نہیں جو عبادت کے لیے خاص ہو، مسلمان شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن اللہ عزوجل نے اس امت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے ایک دن مخصوص کیا ہے، اور وہ ہفتہ کے ساتوں میں افضل ترین دن ہے جسے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث آئی ہیں:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ہم سب سے آخری ہیں، اور روز قیامت سے آگے ہونگے، انہیں ہم سے قبل کتاب دی گئی اور ہم ان کے بعد، یہ وہ دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہدایت دی، کل یہودیوں کا ہے، اور اس کے بعد والا عیسائیوں کے لیے"

صحیح بخاری الجمعة حدیث نمبر (487).

اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل گئے، اور اسی دن اس سے نکالے گئے"

صحیح مسلم الجمعة حدیث نمبر (1410).

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک یہود نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے امیر المومنین اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی:

اليوم اكلمت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا.

آج كے دن ميں نے تمہارے ليے تمہارے دين كو مكمل كر ديا اور تم پر اپني نعمت كو پورا كر ديا، اور تمہارے ليے اسلام كو دين ہونے پر راضي ہو گيا.

ہم اس دن كو عيد كا تہوار بنا لیتے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ كہنے لگے:

ميں جانتا ہوں كہ يہ كس دن نازل ہوئی، يہ آيت يوم عرفہ ميں جمعہ والے دن نازل ہوئی تھی"

صحيح بخاری كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حديث نمبر (6726).

اس دن كے اجر و ثواب كے بيان كے متعلق يہ حديث جسے مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو ہريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بيان كيا ہے كہ رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمایا:

" نماز پنجگانہ اور جمعہ دوسرے جمعہ تك ان دونوں كے مابين گناہوں كا كفار ہے جب تك كبيرہ گناہ كا ارتكاب نہ كيا جائے "

صحيح مسلم كتاب الطہارة حديث نمبر (342).

اور ابو ہريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ بيان كرتے ہيں كہ رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمایا:

" جب جمعہ كا دن ہوتا ہے تو مسجد كے ہر دروازے پر فرشتے كھڑے ہو كر پہلے آنے والے كو پہلے لكھتے ہيں، اور جب امام بيٹھ جائے تو وہ اپنے رجسٹر لپيٹ كر ذكر سننے آ جاتے ہيں، سب سے پہلے آنے والا شخص اس كی طرح ہے جس نے اونٹ قربان كيا ہو، اور اس كے بعد اس كی طرح جس نے گائے قربان كی اور اس كے بعد جس نے مينڈھا قربان كيا ہے، پھر وہ جس نے مرغی قربان كی ہو پھر وہ جس نے انڈا قربان كيا ہو "

صحيح بخاری الجمعة حديث نمبر (1416).

ايك حديث ميں ہے كہ نبی كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمایا:

" تمہارا سب سے افضل ترين دن جمعہ كا دن ہے، اس ميں آدم عليہ السلام پيدا كيے گئے، اسی ميں فوت ہوئے، اور اس دن صور پھونكا جائے گا، اور اسی ميں بے ہوشی طاری ہو گی، لہذا مجھ پر اس دن درود كثرت سے پڑھو، كيونكہ تمہارا درود مجھ پر پيش كيا جاتا ہے "

صحابہ نے عرض كيا: ہمارا درود آپ پر كيسے پيش كيا جائیگا حالانكہ آپ تو مٹی ہو چكے ہونگے؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"یقیناً اللہ عزوجل نے زمین پر انبیاء کا جسم کھانا حرام کر رکھا ہے"

سن ابو دواد سنن نسائی، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الترغیب و الترهیب حدیث نمبر (659) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور غسل کروایا، اور صبح جلد آ کر آگے بیٹھا، اور چل کر آیا سوار نہ ہوا، اور امام کے قریب ہو کر خاموشی سے سنا اور لغو کام نہ کیا تو اسے ہر قدم کے بدلے اس کے مسنون روزے اور قیام کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے"

مسند احمد، جامع ترمذی، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الترغیب و الترهیب حدیث نمبر (687) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اس دن میں ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان نماز ادا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے، اور ہاتھ سے اس کے کم ہونے کا اشارہ کیا"

صحیح بخاری الجمعہ حدیث نمبر (883)۔

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جمعہ کے روز اس گھڑی کو تلاش کرو جس کی امید کی جاتی ہے کہ وہ جمعہ کے روز عصر سے لیکر غروب شمس کے درمیان ہو"

اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الترغیب و الترهیب حدیث نمبر (700) میں صحیح قرار دیا ہے۔

واللہ اعلم .